

## عزیز رہائشی

ہم آپ کو آج نمائشی ایکٹیو ٹریول اسکیم لیونزیوم زیوم (Levenshulme Active travel scheme) کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ یہ آزمائشی اسکیم پیدل چلنے والوں، سائیکل سواروں اور معذوروں کی چھوٹی گاڑیوں کی نقل و حرکت کو محفوظ بنانے کے لئے چلائی گئی تھی۔ یہ نمائشی رکاوٹیں (filters) آزمائشی طور پر لگائی گئی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مستقل بنیادوں پر لگائی جائیں تو آپ کو کونسل کو آگاہ کرنا پڑے گا۔ ہمارے لئے اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ کچھ گلیاں جن میں فلٹرز لگائے گئے ہیں گاڑیوں کی اضافی آمدورفت سے محفوظ ہیں۔ ہم مزید منصفانہ اور شفاف اسکیم چاہتے ہیں جن میں مزید گلیاں اور پیدل گزرگاہیں شامل کی جائیں۔ یہ آزمائشی اسکیم چند ماہ کے لئے چلائی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسکیم بہتر وسائل کے ساتھ چلائی جائے تو آپ کو کونسل سے رابطہ کر کے آگاہ کرنا پڑے گا۔

## ٹریفک کی آمدورفت میں کمی اور اہم سڑکوں پر گزرگاہیں

اس اسکیم سے نا صرف اس علاقے کے رہائشی بلکہ ان لوگوں کے لئے بھی فائدہ مند ہو گی جو روزانہ یہاں سے سفر کرتے ہیں۔ بہتر اقدامات میں مزید پیدل گزرگاہیں، رفتار کی حد اور ٹریفک کو کم کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔ آپ کے علاقے میں یہ خاص طور پر کروم ویل گروو (Cromwell Grove) اور بروم لین (Broom Lane) کے لئے ضروری ہے۔ اسٹریٹ فور پیپل (Streets for People) کی درخواست میں مانچسٹر سٹی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ اہم سڑکوں پر کاروائی کی جائے۔

## نمائشی رکاوٹیں

یہاں پہ فی الحال ۹ فلٹرز نصب کئے گئے ہیں جو کہ ڈور سیٹ روڈ (Dorset Road)، مولینکس روڈ (Molyneux Road)، لونگڈن روڈ (Longden Road)، مینر روڈ (Manor Road)، کیرے مائین ایونیو (Caremine Ave)، گلڈفورڈ روڈ (Guildford Road)، میفارڈ روڈ (Mayford Road)، رینڈلف روڈ (Randolph street) اور کارڈس اسٹریٹ (Cardus Street) پر نصب کئے گئے ہیں۔ کونسل کے ساتھ حالیہ مشاورت میں مینر روڈ (Manor Road) اور ڈنز ٹیل روڈ (Dunstale Road) پر اضافی فلٹر لگانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ کونسل نے آگاہ کیا ہے کہ رہائشیوں کی طرف سے مثبت آراء کا اظہار کیا گیا ہے مگر اس کے لئے سڑکوں پر کام کی ضرورت ہے۔ اس کے کب اور کہاں کے بارے میں کونسل کی طرف سے ابھی کوئی آگاہی نہیں دی گئی۔ آپ دیکھیں گے کہ اضافی فلٹرز مینر روڈ اور ڈنز ٹیل روڈ پر اور پیدل گزرگاہوں پر کتنا مثبت فرق ڈالیں گے۔

گچھ چھٹی کم ٹریفک والی گلیوں کے بجائے اس کام کو وسعت دی جانی چاہئے اور مزید محفوظ راستہ بنانے چاہئیں پیدل چلنے اور سائیکل سواروں کے لئے۔

## تعاون کی اپیل

اگر آپ مزید بہتر اقدامات چاہتے ہیں تو اس درخواست پر دستخط کریں

<https://streetsforpeople.co.uk/>

اگر آپ یہ عارضی فلٹرز مستول رکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پہ جائیں

<https://levenshulmeandburnageactiveneighbourhood.commonplace.is/>

اور 'Have your say' پہ کلک کریں اور دونوں حصوں کو بھریں اور اپنی رائے دیں اپنے علاقے کے فلٹرز کے بارے میں ؛  
دیجئے رائے کی آپ پر اسکیم ساری اس 'Have your say' فیز ۱ 'Have your say'، ٹرائیل اور فلٹرز کے بارے میں

اگر آپ رضامند ہیں چیپل اسٹریٹ، کرے فیلڈ روڈ اور مارلے روڈ پہ ایک اضافی فلٹر کے لئے تو کونسل کو درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں

[Levyburnageproject@manchester.gov.uk](mailto:Levyburnageproject@manchester.gov.uk)

## شکرگزار

اسٹریٹ فور پیپل لیوینزیوم اور برنیج


اسٹریٹ فور پیپل ایک ٹیم (جماعت) جو کہ یہاں کے رہائشی لوگوں پر مشتمل ہے جو ہماری گلیوں کو پیدل چلنے والوں کے لئے محفوظ بنانا چاہتے ہیں

<https://streetsforpeople.co.uk>

## موجودہ منصوبہ



## مزید پیدل گزر گاہوں اور مزید رکاوٹوں (filters) کا منصوبہ



جہاں سے اضافی گاڑیوں کی آمد و رفت نہ ہو بغیر ٹریفک کے گلیاں



ماڈل فلٹرز



پیدل گزرگاہ



پیدل چلنے والوں کے لئے راستہ



تجاویز شدہ چوک/گزرگاہ